

# Jer

## Chapter 14

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	אֲשֶׁר	הָיָה	דְּבַר-	יְהוָה	אֶל-	יְרֵמְיָהוּ	עַל-	דְּבָרָיו	הַבְּצֻרוֹת:
	جو	آيا	كلام-	يهوواہ-كا	پاس-	يرمياہ	كے-بارے-میں-	باتوں	خشك-ساليوں-كے
	H1961	H1697	H3068	H413	H3414	H1697	H1226		

ہوا، کلام ہم سے یرمیاہ رب دوران کے کال

2	اَنْبִיָּא	יְהוָה	וּשְׁעָרָיָהּ	אֲמַלְלוּ	קְדְרוּ	לְאַרְצוֹ	וַצִּוְתָהּ	יְרוּשָׁלַם	עֲלֻתָּהּ:
	ماتم-کرتی-ہے	يهوداه	اور-اُس-کے-دروازے	کمزور-ہو-گئے	سیاہ-ہو-گئے	زمین-تک	اور-فریاد	یروشلم-کی	اُٹھی
	H0056	H3063	H8179	H0535	H6937	H0776	H6682	H3389	H5927

ہو بلند تک آسمان چیخیں کی یروشلم اور ہیں، بیٹھے پر فرش میں حالت وار سوگ لوگ ہے۔ رحم قابل حالت کی دروازوں کے اُس ہے، ربا کر ماتم یرمیاہ

3	וְאֲדַרְיָהֶם	שְׁלָחוּ	צְעוּרֵיהֶם	צְעוּרֵיהֶם	לְמַיִם	בְּאוּ	עַל-	נְבִיִם	לֹא-	מִצְאֵוּ
	اور-اُن-کے-بڑے	بھیجتے-ہیں	چھوٹے	چھوٹے-اپنے	پانی-کے-لیے	آئے	پاس-	حوضوں	نہیں-	پایا
	H0117	H7971	H6810	H6810	H4325	H0935			H3808	H4672

مַיִם	שָׁבוּ	בְּלִיָּהֶם	רִיחָם	בְּשׁוּ	וְהִקְלָמוּ	וְחָפוּ	רִאשָׁם:
پانی	لوٹے	اُن-کے-برتن	خالی	شرمندہ-ہوئے	اور-رسوا-ہوئے	اور-ڈھانپے	اپنا-سر
H4325	H7725	H3627	H7387	H0954	H3637	H2645	

ہیں۔ جاتے آ واپس ہاتھ خالی وہ لئے اس ہے، نہیں پانی کہ ہے چلتا پتا کر پہنچ پاس کے حوضوں لیکن ہیں، بھیجتے بھرنے پانی کو نوکروں اپنے امیر ہیں۔ لیتے ڈھانپے کو سروں اپنے وہ مارے کے ندامت اور شرمندگی

4	בַּעֲבוּר	הָאֲדָמָה	חֲתָהּ	כִּי	לֹא-	הָיָה	נֶשֶׁם	בְּאֲרָץ	בְּשׁוּ	אֲכָרִים
سبب-سے	زمین-کے	دراڑ-پڑ-گئی-ہے	کیونکہ	نہیں-		ہوئی	بارش	سرزمین-میں	شرمندہ-ہوئے	کسان
H5668	H0127	H2865	H3808	H1961	H1653	H0776	H0954	H0406		

حָפוּ رִאשָׁם:  
ڈھانپے اپنا-سر  
H2645

ہیں۔ لیتے ڈھانپے کو سروں اپنے مارے کے شرم بھی والے کرنے کام میں کھیتوں ہیں۔ گئی پڑ دراڑیں میں زمین سے وجہ کی ہونے نہ بارش

5	כִּי	נֵם-	אֵילָת	בְּשָׂדָה	יְלָדָה	וְעֶזְב	כִּי	לֹא-	הָיָה	דָּשָׂא:
کیونکہ	بلکہ-	برنی	کھیت-میں	جنی	اور-چھوڑ-دیا	کیونکہ	نہیں-		تھی	گھاس
H1571	H0365	H3205								

ہے۔ دیتی چھوڑ کو بچے نومولود اپنے برنی لئے اس ہے، نہیں گھاس

6	וּפְרָאִים	עֲמֻדָו	עַל-	שָׁפָוּם	שָׁפָוּ	רוּחַ	כְּתַנִּים	כָּלוּ
اور-جنگلی-گدھے	کھڑے-ہوئے	پر-	ٹیلوں	ہانپتے-ہیں	ہوا	گیدڑوں-کی-طرح	تک-ٹک-دیکھتی-ہیں	
H6501	H5975	H8205						

עֵינֵיהֶם  
اُن-کی-آنکھیں کیونکہ-  
اֵין  
نہیں گھاس  
H6212 H0369

ہیں۔ یرے ہو ہے جان وہ سے وجہ کی ملنے نہ بریالی ہیں۔ ہانپتے طرح کی گیدڑوں کھڑے پر ٹیلوں بنجر گدھے جنگلی

7	אם-	עוֹלָמָה	עֲנִי	כָּנוּ	יְהוָה	עֲשָׂה	לְמַעַן	שָׁמַךְ	כִּי-	רָבוּ
	اگر-	ہمارے گناہ	گواہی دیتے ہیں	ہمارے خلاف	یہوواہ	کر	خاطر	اپنے نام کی	کیونکہ-	بہت ہیں
		<a href="#">H5771</a>			<a href="#">H3068</a>		<a href="#">H4616</a>	<a href="#">H8034</a>		<a href="#">H7231</a>

مَنשׁוּבְתֵינִי  
ہمارے برگشتگیاں  
لָךְ  
تیرے خلاف  
חָטְאֵנוּ:  
گناہ کیے ہم نے  
[H4878](#)  
[H2398](#)

ہی تیرا نے ہم ہیں، گئے ہو بے وفا طرح بُری کہ ہیں مانتے ہم کر۔ رحم پر ہم خاطر کی نام اپنے توبھی ہیں۔ رہے دے گواہی خلاف ہمارے گناہ ہمارے رب، اے ہے کیا گناہ

8	מְקוֹהָ	יִשְׂרָאֵל	מִזְשִׁיעוֹ	בְּעֵת	צָרָה	לְמָה	תְּהִיָּה	כִּנּוּר	בְּאֶרֶץ
	امید	اسرائیل کی	بچانے والا-اُس کا	وقت میں	مصیبت کے	کیوں	ہوتا ہے	اجنبی کی طرح	سرزمین میں
	<a href="#">H4100</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H3467</a>	<a href="#">H6256</a>		<a href="#">H4100</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H1616</a>	<a href="#">H0776</a>

וְכֹאֲרָח  
اور مسافر کی طرح  
נִמְהָר  
جھکا  
לָלוּן:  
رات گزارنے کو  
[H5186](#)  
[H0732](#)

کو رات تو ہے؟ کیوں سا کا اجنبی میں ملک سلوک تیرا ساتھ ہمارے پھر تو ہے۔ دیتا چھٹکارا اُسے وقت کے مصیبت ہی تو ہے، اُمید کی اسرائیل تو اللہ، اے ہے؟ کیوں جیسا مسافر والے ٹھہرنے اُدھر کبھی اُدھر کبھی

9	לְמָה	תְּהִיָּה	כְּאִישׁ	נְדָחִים	כְּבָבוֹר	לֹא-	יִוָּכַל	לְהוֹשִׁיעַ	וְאֵתָה	בְּקִרְבָּנוּ
	کیوں	ہوتا ہے	آدمی کی طرح	حیران	بہادر کی طرح	نہیں	کر سکتا	بچانا	اور تو	ہمارے بیچ میں
	<a href="#">H4100</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H1724</a>	<a href="#">H1368</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3201</a>	<a href="#">H3467</a>		<a href="#">H7130</a>

יְהוָה  
یہوواہ  
וְשָׁמַךְ  
اور تیرا نام  
עָלֵינוּ  
ہم پر  
נִקְרָא  
پکارا گیا ہے  
אֵל-  
نہ  
תִּנְחַנְנוּ:  
چھوڑ ہمیں  
ס  
—  
[H3068](#)  
[H8034](#)  
[H7121](#)  
[H0408](#)  
[H3240](#)

رہتا ہی درمیان ہمارے تو تو رب، اے سکتا۔ نہیں بچا کر ہو بے بس جو مانند کی سورمے اُس ہے، جاتا ہو بخود دم اچانک جو ہے مانند کی آدمی اُس کیوں تو کرانہ ترک ہمیں ہے۔ لگا ٹھپا کا نام ہی تیرے پر ہم اور ہے،

10	כֹּה-	אָמַר	יְהוָה	לְעַם	הַזֶּה	כִּן	אֶהְבֹּו	לְזוּעַ	רַגְלֵיהֶם	לֹא	חֲשָׁבוּ
	یوں	فرماتا ہے	یہوواہ	قوم کو	اس	اسی طرح	پسند کرتے ہیں	بھٹکنا	اپنے قدم	نہیں	روکے
	<a href="#">H3541</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H2088</a>		<a href="#">H0157</a>	<a href="#">H5128</a>	<a href="#">H7272</a>	<a href="#">H3808</a>		<a href="#">H2820</a>

וַיְהוָה  
اور یہوواہ نے  
לֹא  
نہیں  
רָצָם  
قبول کیا انہیں  
עָתָה  
اب  
יִזְכֹּר  
یاد کرے گا  
עוֹנָם  
ان کا گناہ  
וַיִּפְקֹד  
اور سزا دے گا  
חֲטָאתָם:  
ان کے گناہوں  
ס  
—  
[H3068](#)  
[H3808](#)  
[H7521](#)  
[H6258](#)  
[H2142](#)  
[H5771](#)

مجھے اب ہوں۔ ناخوش سے اُن میں سکتے۔ نہیں ہی روک کو پاؤں اپنے یہ ہیں، شوقین کے پھرنے آوارہ لوگ یہ ہے، فرماتا میں بارے کے قوم اس رب لیکن گا۔ دوں سزا کی گناہوں کے اُن میں اب گے، رہیں یاد کام غلط کے اُن

11	וַיֹּאמֶר	יְהוָה	אֵלַי	אֵל-	תְּתַפְלֵל	בְּעַד-	הָעַם	הַזֶּה	לְטוֹבָה:
	اور فرمایا	یہوواہ نے	مجھ سے	نہ	دعا کر	کے لیے	قوم	اس	بھلائی کے لیے
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H6419</a>	<a href="#">H1157</a>		<a href="#">H2088</a>	

کر نامت دعا لئے کے بہبودی کی قوم یہ اس ہوا، کلام ہم سے مجھ مزید رب

12	כִּי	יָצְמוּ	אֵינֶנִּי	שִׁמְעֵ	אֵל-	רִנְתָּם	וְכִי	יַעֲלוּ	עֲלָה	וּמִנְחָה
	کیونکہ	روزہ رکھیں گے	نہیں	سننا	کو	ان کی فریاد	اور جب	چڑھائیں گے	سوختنی قربانی	اور نذر
	<a href="#">H6684</a>	<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H0413</a>		<a href="#">H7440</a>		<a href="#">H5927</a>		<a href="#">H4503</a>

س	אֵינֶנִּי	רָצָם	כִּי	בְחֹרֶב	וּבְרָעַב	וּבְדָבָר	אֲנִכִּי	מִכְלָה	אוֹתָם:
	نہیں	قبول کرتا انہیں	کیونکہ	تلوار سے	اور قحط سے	اور وبا سے	میں	فنا کرنے والا ہوں	انہیں
	<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H7521</a>		<a href="#">H2719</a>	<a href="#">H7458</a>	<a href="#">H1698</a>	<a href="#">H0595</a>	<a href="#">H3615</a>	<a href="#">H0853</a>

سے ان میں توبھی کریں بھی پیش قربانیاں کی غلہ اور والی ہونے بھسم یہ گو گا۔ دوں نہیں دھیان پر التجاؤں کی ان میں توبھی رکھیں بھی روزہ یہ گو گا۔ دوں کر نابود و نیست سے بیماریوں اور تلوار کال، انہیں بلکہ گا ہوں نہیں خوش

וְאִמֶּר	וְאָתָה	אָרְנִי	יְהוּה	הִזְה	הַנְּבֵאִים	אִמְרִים	לָהֶם	לֹא-	תִרְאוּ	חֶרֶב
اور-میں-نے-کہا	آہ	آقا	یہوواہ	دیکھو	نبی	کہتے-ہیں	انہیں	نہیں-	دیکھو-گے-تم	تلوار
<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0162</a>	<a href="#">H0136</a>	<a href="#">H3069</a>	<a href="#">H2009</a>	<a href="#">H5030</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H2719</a>	
וְרַעַב	לֹא-	יְהוּה	לָכֶם	כִּי-	שָׁלוֹם	אֶמֶת	אֶתֶן	לָכֶם	בְּמִקְוֹם	הַזֶּה:
اور-قحط	نہیں-	بوگا	تمہیں	کیونکہ-	سلامتی	سچی	دوں-گا	تمہیں	جگہ-میں	اس
<a href="#">H7458</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H1961</a>			<a href="#">H7965</a>	<a href="#">H0571</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H4725</a>	<a href="#">H2088</a>	<a href="#">H2088</a>

لئے تمہارے بھیں میں بلکہ گا پڑے کال نہ گا، بو خطرہ کا غارت و قتل نہ ہیں، آئے بتاتے انہیں نبی مطلق، قادر رب اے کیا، اعتراض نے میں کر سن یہ گا۔ لوں کر بندوبست پکا کا امان و امن

וְיִאמֶר	יְהוּה	אֵלָי	שָׁקֵר	הַנְּבֵאִים	נְבֵאִים	בְּשֵׁמִי	לֹא	שְׁלַחְתִּים
اور-فرمایا	یہوواہ-نے	مجھ-سے	جھوٹی	نبی	نبوت-کرتے-ہیں	میرے-نام-سے	نہیں	بھیجا-میں-نے-انہیں
<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H8267</a>	<a href="#">H5030</a>	<a href="#">H5012</a>	<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H7971</a>
וְלֹא	צוֹיִתִים	וְלֹא	דְבַרְתִּי	אֲלֵיהֶם	חֲזוֹן	שָׁקֵר	וְקַסִּם	וְאֵלֵיךְ
اور-نہیں	حکم-دیا-میں-نے-انہیں	اور-نہیں	بولا-میں-نے	ان-سے	رؤیا	جھوٹی	اور-فالگیری	باطل
<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H6680</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H1696</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H2377</a>	<a href="#">H8267</a>	<a href="#">H7081</a>	<a href="#">H0434</a>
[وְתַרְמוֹת]	[וְתַרְמוֹת]	לָכֶם	הַמָּזָה	מִתְנַבְּאִים	לָכֶם:	ס		
دھوکہ	دھوکہ	اپنے-دل-کا	وہ	نبوت-کرتے-ہیں	تمہیں	—		
	<a href="#">H8649</a>		<a href="#">H1992</a>	<a href="#">H5012</a>				

ہوا۔ کلام ہم سے ان نہ اور دی داری ذمہ کوئی انہیں نہ بھیجا، انہیں نہ نے میں ہیں۔ رہے کر بیان گوئیاں پیش جھوٹی کر لے نام میرا نبی دیا، جواب نے رب ہیں۔ رہے سناتے ہم کے دل اپنے اور گوئیاں پیش فضول رویائیں، جھوٹی تمہیں یہ

לָכֶן	כֹּה-	אָמַר	יְהוּה	עַל-	הַנְּבֵאִים	הַנְּבֵאִים	בְּשֵׁמִי	וְאִנִּי	לֹא-
اس-لیے	یوں-	فرماتا-ہے	یہوواہ	کے-بارے-میں-	نبیوں	نبوت-کرنے-والے	میرے-نام-سے	اور-میں-نے-نہیں-	
<a href="#">H3541</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3068</a>			<a href="#">H5030</a>	<a href="#">H5012</a>	<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H3808</a>
שְׁלַחְתִּים	וְהִלְמָה	אִמְרִים	חֶרֶב	וְרַעַב	לֹא	יְהוּה	בְּחֶרֶב	וְבַרְעָב	
بھیجا-انہیں	اور-وہ	کہتے-ہیں	تلوار	اور-قحط	نہیں	بوگا	تلوار-سے	اور-قحط-سے	
<a href="#">H7971</a>	<a href="#">H1992</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H2719</a>	<a href="#">H7458</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H2063</a>	<a href="#">H7458</a>	
יְתוֹמוֹ	הַנְּבֵאִים	הַהִמָּה:							
فنا-ہوں-گے	نبی	وہ							
<a href="#">H8552</a>	<a href="#">H5030</a>	<a href="#">H1992</a>							

کہتے کے کر نبوت میں نام میرے یہ تو بھی بھیجا نہیں انہیں نے میں گو کیونکہ گے۔ جائیں مر کر آ میں زد کی کال اور تلوار نبی ہے، فرماتا رب چنانچہ گا پڑے کال نہ گا، بو خطرہ کا غارت و قتل نہ میں ملک کہ ہیں

וְהָעַם	אֲשֶׁר-	הַמָּזָה	נְבֵאִים	לָהֶם	יְהוּה	מְשֻׁלְכִים	בְּחֻצוֹת	יְרוּשָׁלַם	אֲמַנְנִי
اور-قوم	جنہیں-	وہ	نبوت-کرتے-ہیں	ان-کو	ہوں-گے	پھینکے-ہوئے	گلیوں-میں	یروشلم-کے	سامنے-سے
<a href="#">H1992</a>	<a href="#">H1992</a>	<a href="#">H5012</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H7993</a>	<a href="#">H2351</a>	<a href="#">H3389</a>	<a href="#">H6440</a>		
חֶרֶב	וְהַחֶרֶב	וְאִין	מִקְבָּר	לְהִמָּה	הַמָּזָה	נְשִׁיחֶם	וּבְנֵיהֶם	וּבְנֵיהֶם	
قحط-کے	اور-تلوار-کے	اور-کوئی-نہیں	دفنانے-والا	انہیں	وہ	ان-کی-بیویاں	اور-ان-کے-بیٹے	اور-ان-کی-بیٹیاں	
<a href="#">H7458</a>	<a href="#">H2719</a>	<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H6912</a>	<a href="#">H1992</a>	<a href="#">H1992</a>	<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H1323</a>		
	וְשִׁפְכֵתִי	עַלֵיהֶם	אֶת-	רַעְתָם:					
	اور-انڈیلوں-گا-میں	ان-پر	کو-	ان-کی-برائیاں					
	<a href="#">H8210</a>	<a href="#">H0853</a>							

انہیں گی۔ جائیں دی پھینک میں گلیوں کی یروشلم لاشیں کی ان گے، جائیں بن شکار کا کال اور تلوار وہ ہیں رہے سناتے نبوتیں اپنی وہ کو لوگوں جن اور گا۔ کروں نازل بدکاری اپنی کی ان پر ان میں یوں کو۔ بیٹیوں بیٹے کے ان نہ اور کو بیویوں کی ان نہ کو، ان نہ گا، بو نہیں کوئی والا دفنانے

17	וְאָמַרְתָּ	אֲלֵיהֶם	אֶת-	הַדָּבָר	הַזֶּה	תִּלְדָּנָה	עֵינֵי	דְּמֹעָה	לַיְלָה	וַיִּזְמַם	וְאֵל-
	اور-کہو	ان-سے	کو-	کلام	یہ	بہیں-گے	میری-آنکھیں	آنسو	رات	اور-دن	اور-نہ-
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H2088</a>	<a href="#">H3381</a>	<a href="#">H1832</a>	<a href="#">H3915</a>	<a href="#">H3119</a>	<a href="#">H0408</a>	
	תְּדַמִּינָה	כִּי	שָׂבַר	גָּדוֹל	נִשְׁבְּרָה	בְּתוֹלָת	בֵּית-	עֲזָרִי	מִכָּה	נִחַלָה	מְאֹד:
	رکیں-گے	کیونکہ	شکست	بڑی	توڑی-گئی	کنواری	بیٹی-	میری-قوم-کی	زخم	لاعلاج	بہت
	<a href="#">H1820</a>	<a href="#">H7667</a>	<a href="#">H7667</a>	<a href="#">H7665</a>	<a href="#">H1330</a>	<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H4347</a>	<a href="#">H3966</a>			

ایسا ہے، گئی لگ چوٹ گہری کو بیٹی کنواری میری قوم، میری کیونکہ سکتے، نہیں رُک وہ ہیں۔ رہے بہ آنسو میرے رات [ ] دن سنا، کلام یہ انہیں یرمیاہ، اے سکتا۔ نہیں بھر جو زخم

18	אִם-	יִצְאָתִי	הַשָּׂדֶה	וְהִנֵּה	חַלְלִי-	חֶרֶב	וְאִם	בְּאֶתִי	הַעִיר	וְהִנֵּה	
	اگر-	نکلوں-میں	کھیت-میں	اور-دیکھو	مقتول-	تلوار-کے	اور-اگر	جاؤں-میں	شہر-میں	اور-دیکھو	
	<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H2009</a>	<a href="#">H2719</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H2009</a>	<a href="#">H2009</a>					
	תַּחֲלוּאֵי	רַעֲב	כִּי-	נִם-	נִבְיָא	נִם-	כַּהֵן	סָחֲרוּ	אֶל-	אָרֶץ	וְלֹא
	بیماریاں	قحط-کی	کیونکہ-	بلکہ-	نبی	بلکہ-	کاہن	پہرتے-ہیں	سرزمین-	سرزمین-میں	اور-نہیں
	<a href="#">H8463</a>	<a href="#">H7458</a>	<a href="#">H1571</a>	<a href="#">H5030</a>	<a href="#">H1571</a>	<a href="#">H3548</a>	<a href="#">H5503</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3045</a>

س

دکھائی اثرات بُرے کے کال طرف چاروں تو ہوں آتا واپس میں شہر میں جب ہیں۔ گئے کئے قتل سے تلوار جو ہیں آتے نظر سب وہ مجھے کر جا میں دیہات کریں [ ]۔ [ ] کیا کہ نہیں معلوم انہیں اور ہیں، رہے پھر مارے مارے میں ملک امام اور نبی ہیں۔ دیتے

19	הַמָּאֵס	מְאֻסָּתָ	אֶת-	יְהוּדָה	אִם-	בְּצִיּוֹן	נִעְלָה	נִפְשָׁךְ	מִדּוּעַ	
	کیا-بالکل	رد-کر-دیا-ٹو-نے	کو-	یہوداہ	یا-	صیہون-سے	نفرت-کی	تیری-جان-نے	کیوں	
	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3063</a>	<a href="#">H6726</a>	<a href="#">H1602</a>	<a href="#">H4069</a>					
	הַכִּתְנּוֹ	וְאִין	לָנוּ	מִרְפָּא	קִנְיָה	לְשָׁלוֹם	וְאִין	טוֹב	וְלִעֲת	מִרְפָּא
	مارا-ٹو-نے-ہمیں	اور-نہیں	ہمارے-لیے	شفا	انتظار-کیا	سلامتی-کا	اور-نہیں	بھلائی	اور-وقت-میں	شفا-کے
	<a href="#">H5221</a>	<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H4832</a>	<a href="#">H7965</a>	<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H6256</a>	<a href="#">H4832</a>			

وְהִנֵּה  
اور-دیکھو  
دبشت  
[H1205](#)  
[H2009](#)

ہم ہے؟ گیا ہو ناممکن علاج ہمارا کہ مارا کیوں بار اتنی ہمیں نے ٹو ہے؟ آتی گھن اتنی سے صیون تجھے کیا ہے؟ کیا رد سراسر کو یہوداہ نے ٹو کیا رب، اے گئی۔ جہا دبشت پر ہم بجائے کے اس لیکن تھے، رکھتے امید کی پانے شفا ہم ہوئے۔ نہ ٹھیک حالات لیکن رہے، میں انتظار کے امان و امن

20	יָדְעֵנוּ	יְהוָה	רָשָׁעֵנוּ	עֲזָן	אֲבוֹתֵינוּ	כִּי	חַטָּאוּ	לָךְ:
	جانتے-ہیں-ہم	یہوواہ	ہماری-شرارت	گناہ	ہمارے-باپ-دادا-کا	کیونکہ	گناہ-کیے-ہم-نے	تیرے-خلاف
	<a href="#">H3045</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H7562</a>	<a href="#">H5771</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H2398</a>		

ہے۔ کیا گناہ ہی تیرا نے ہم ہیں۔ کرتے تسلیم قصور کا دادا باپ اپنے اور بے دینی اپنی ہم رب، اے

21	אֶל-	תְּנַאֲץ	לְמַעַן	שָׂמֹךְ	אֶל-	תִּנְבֵּל	כִּסֵּא	כְּבוֹדְךָ	זָכַר	אֶל-	תִּפְר
	نہ-	رد-کر	خاطر	اپنے-نام-کی	نہ-	بے-عزت-کر	تخت	اپنے-جلال-کے	یاد-کر	نہ-	توڑ
	<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H5006</a>	<a href="#">H4616</a>	<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H3678</a>	<a href="#">H3519</a>	<a href="#">H2142</a>	<a href="#">H0408</a>		
	בְּרִיתְךָ	אֲתָנוּ:	اپنا-عہد	ہمارے-ساتھ	<a href="#">H1285</a>	<a href="#">H0854</a>					

کر۔ نہ منسوخ اُسے کر، یاد عہد اپنا ساتھ ہمارے دے! نہ ہونے بے حرمتی کی تخت جلالی اپنے جان، نہ حقیر ہمیں خاطر کی نام اپنے

הָיָה	בְּהַבְלִי	הַגּוֹיִם	מִזְשָׁמַיִם	וְאֵם-	הַשָּׁמַיִם	יְהִנּוּ	רַבִּימִים	הַלֵּא	אֲתָה-
کیا-ہے	باطلوں-میں	قوموں-کے	بارش-برسانے-والے	یا-	آسمان	دیتے-ہیں	بارشیں	کیا-نہیں	تو-ہی-
<a href="#">H3426</a>	<a href="#">H1892</a>		<a href="#">H1652</a>		<a href="#">H8064</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H7241</a>	<a href="#">H3808</a>	
הוּא	יְהוָה	אֱלֹהֵינוּ	וְנִקְוָה-	לָךְ	כִּי-	אֲתָה	עֲשִׂיתָ	אֶת-	כָּל-
ہے	یہوواہ	ہمارے-خدا	اور-انتظار-کرتے-ہیں-ہم-	تیرا	کیونکہ-	تو-نے	بنایا	کو-	سب-
<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>						<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3605</a>
									<a href="#">H0428</a>

פ

—

سب یہ ہی تو بلکہ نہیں، برگز ہے؟ دیتا بھیج پر زمین بارشیں ہی خود آسمان کیا یا سکے؟ برسا بارش جو ہے کوئی سے میں دیوتاؤں کے اقوام دیگر کیا ہے۔ کیا قائم انتظام سارا یہ نے ہی تو ہیں۔ رکھتے اُمید پر تجھ ہم لئے اسی خدا۔ ہمارے رب اے ہے، کرتا کچھ